

رورسٹون کمیونٹی سنٹر اب برامپٹن میں کھلا ہے

برامپٹن، آن (7 جولائی 2022) – سٹی آف برامپٹن کا نیا رورسٹون کمیونٹی سنٹر اب عوام کے لیے کھلا ہے۔

رورسٹون کمیونٹی سنٹر 34,000 مربع فٹ پر مشتمل ایک تفریحی سہولت گاہ ہے، جس میں نمکین پانی کا ایک تجدید شدہ پول، توسیع شدہ چیئنج رومز اور فٹنس رومز اور کئی کثیر المقاصد کمرے موجود ہیں۔ نئے کمیونٹی سینٹر میں ایک فٹنس ایریا، سکواش کورٹس اور مزید بھی شامل ہیں۔

رورسٹون کمیونٹی سنٹر برامپٹن میں 195 ڈان مناکر ڈرائیو پر واقع ہے۔ سہولیات کی مکمل فہرست اور پروگراموں کے لیے رجسٹر ہونے کے لیے www.brampton.ca/riverstone ملاحظہ کریں۔

اقتباسات

"ہم برامپٹن میں اپنے سب سے نئے تفریحی سنٹر، رورسٹون کمیونٹی سنٹر کو کھولنے پر پرجوش ہیں۔ اس تجدید میں صحت و سلامتی کے لیے ری-فٹنس سے لے کر نمکین پانی کے پول تک قابل رسائی ریمپ اور تندرستی کے آلات کی تبدیلی اور مزید تک چیزیں شامل ہیں۔ میں تمام لوگوں کو اس نئی سہولت گاہ کو ملاحظہ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے اور ہم اپنی کمیونٹی میں ہر شخص کے لیے قابل رسائی تفریحی سرگرمیاں فراہم کرنے کے لیے وقف ہیں۔ رورسٹون کمیونٹی سینٹر ایک بہترین اضافہ ہے، جو پورے برامپٹن کی خدمت کرے گا۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کا عملہ گاہکوں کو رورسٹون کمیونٹی سنٹر میں خوش آمدید کہنے کے لیے پرامید ہے۔ 34,000 مربع فٹ پر مشتمل اس سہولت گاہ کی ہماری کمیونٹی کی صحت و تندرستی کی خواہشات کی بہترین خدمت کرنے کے لیے تجدید کی گئی ہے۔"

- پال مورین، انٹیریم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca